



## سوال

(69) وضو کے پانی کی مقدار

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا وضو اور غسل میں پانی کی کوئی مقدار مقرر ہے یا جتنا چاہے پانی استعمال کر سکتے ہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"بُجْرِيٌّ مِنْ الْوُضُوءِ نَدْوَمِنْ الْغُسْلِ صَاعٌ"

"وضو میں ایک مد اور غسل میں ایک صاع پانی کفایت کرتا ہے۔" (الصحيح: 2447)

القاموس میں لکھا ہے: "مد" دو رطل یا ایک اور تہائی رطل یا انسان کا دونوں ہاتھوں کا چلو بھر پانی مد کہلاتا ہے۔ (جدید وزن کے مطابق مد 600 گرام ہوتا ہے اور صاع اڑھائی کلو بنتا ہے۔

امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ "صحیح" (117) میں فرماتے ہیں:

"اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے لیے ایک مد پانی بھی کفایت کرتا ہے، لہذا اس بات کی اس سے کسی زیادتی ناجائز ہے۔

قلت: بات بالکل اس طرح ہے لیکن وضو اور غسل کے پانی میں اسراف سے بچنا مناسب ہے۔ اس لیے کہ اسراف ممنوع ہے۔ (نظم الفرائد: 1/262-261)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



## طہارت کے مسائل صفحہ: 165

محدث فتویٰ